

برائے فوری اجراء

## برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں پانچ نئے اراکین کو شامل کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (13 مئی 2021) – ہر سال برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم (BSHF) ایسے مایہ ناز کھلاڑیوں کی کامیابیوں کا اعتراف کرتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے جو برامپٹن میں کھیلوں کے فروغ میں اپنا منفرد کردار ادا کرتے ہیں۔ 2021 میں کھیلوں کے میدان میں شاندار کارکردگی دکھانے والے پانچ نئے افراد کی برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں شمولیت کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔

اورلینٹو بووین کو فٹ بال کے کھیل میں شاندار کامیابیوں کے حصول پر اتھلیٹ کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ برامپٹن میں پروان چڑھنے اور کئی کھیلوں کے ایک اسٹار اتھلیٹ ہونے نے NCAA میں کھیلنے کے لیے فٹ بال اسکالرشپ حاصل کیا تھا اور کینیڈین فٹ بال لیگ میں پیشہ ورانہ کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔

کنیتھ کوئٹی کو ہارس شووز میں قابل فخر خدمات پیش کرنے پر بلڈر کیٹیگری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ہارس شو کے زمرے میں کوئٹی کو پہلی مرتبہ برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ 1994 میں شمولیت اختیار کرنے اور 1997 میں کمیٹی کا رکن منتخب ہونے کے بعد سے اب تک وہ برامپٹن مینز ہارس شو کلب (Men's Horseshoe Club) میں شاندار اور ترغیبی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔

ٹیموتھی ٹرمپر کو برامپٹن میں ہاکی کے کھیل میں شاندار کامیابیوں کے حصول پر اتھلیٹ کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ ٹرمپر نے برامپٹن مینز ہاکی ایسوسی ایشن (BMHA) میں ایک شاندار تاریخ رقم کی تھی، جب انہوں نے 1979 میں شکاگو بلیک ہاکس کے ساتھ NHL میں دستخط کرنے والی تنظیم کے پہلے کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا تھا۔

زینی لیبینسکی کو لیکروس کے فروغ میں خدمات سر انجام دینے پر ویٹرن کیٹیگری میں منتخب کیا جا رہا ہے۔ لیبینسکی نے 1957 میں جب سے برامپٹن میں کھیلنا شروع کیا تھا، تو تب سے وہ کھیلنے سے لے کر ایگزیکٹو حیثیت تک لیکروس کے فروغ کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے شاندار خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔

رابرٹ سینڈرسن کو لیکروس کے فروغ میں خدمات سر انجام دینے پر بلڈر کیٹیگری میں منتخب کیا جا رہا ہے۔ برامپٹن ایکسیلسینرز میں سینڈرسن کی شمولیت کا آغاز 1969 میں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں بڑی نوعیت کے ایکسیلسینرز اور کینیڈین ہاکس لیکروس ٹیم کو منتظم کیا اور یہیں سے انہوں نے فلاڈلفیا، پینسلوینیا میں منعقد ہونے والی ورلڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔

برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم اور اس سال کی مقرر شدہ شخصیات کے متعلق مزید جاننے کے لیے، آن لائن [brampton.ca/bshf](http://brampton.ca/bshf) پر ملاحظہ کریں۔

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کو 1979 میں کھیلوں کے فروغ کے لیے باعزم اور جوشیلے افراد نے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ یہ 7575 کینیڈی روڈ ساؤتھ پر CAA سنٹر میں واقع ہے۔

### 2022 کی نامزدگیاں

کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، جس نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟ [2022 کے لیے نامزدگی فارم ڈاؤن لوڈ کریں!](#) نامزدگیاں 15 جون 2021 تک قبول کی جائیں گی۔

### اقتباسات

"2021 برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم کے لیے منتخب کیے جانے والی تمام معزز شخصیات کو میری جانب سے مبارک باد! برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم میں برامپٹن میں کھیلوں کی تاریخ کے نمایاں کرداروں اور ان لوگوں کو جو ہماری کمیونٹی میں کھیلوں کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس سال کے لیے مقرر کی جانے والی شخصیات نے اپنے شعبوں میں کاربائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور برامپٹن میں کھیلوں کو فروغ دیا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہم اس سال کے برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیے جانے والی شخصیات کے ناموں کا اعلان کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان میں شامل پانچوں ممتاز شخصیات نے ہماری کمیونٹی میں کھیلوں کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے ہر روز اپنی قائدانہ

صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم ان کے کارناموں کا برملا اعتراف کرتے ہیں اور 2022 کے لیے نامزدگیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔"

- جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ ممبر، برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم، سٹی آف برامپٹن

"2021 برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم کے لیے نامزدگان کی کھیلوں کے لیے پیش کی جانے والی بیش بہا خدمات برامپٹن کے لیے فخر کا باعث بنی ہیں۔ ہم ہر سطح کی کارکردگی اور قابلیت کے حامل لوگوں کے لیے 2022 کی نامزدگیوں کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ برامپٹن سے تعلق رکھنے والے شانداز کارکردگی کے حامل اٹھیلیٹس، بلڈرز، سابقہ فوجیوں اور ٹیموں کی خدمات کا ہم اعتراف کریں گے۔ آج ہی کسی کو نامزد کریں۔"

- ٹوگ ویلینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ ممبر، برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم، سٹی آف برامپٹن

"اگرچہ 2020 اور 2021 کے لیے نامزدگیوں کی تقریبات کو عالمی وباء کی وجہ سے ہمیں ملتوی کرنا پڑے گا، مگر میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ نامزدگان کو مبارک باد ضرور دیں۔ 2022 کے دوران نئے نامزدگان کے لیے نامزدگی کا فارم ڈاؤن لوڈ کریں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)